



Ghani Global Group

# GHANI GLOBAL GLASS LIMITED

Manufacturers of World Class Tubing & Glassware

GGGL/Corp/PSX-AGM

October 09, 2025

✓ **The General Manager**

Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
**Karachi.**

Subject: **Cuttings of Notice of Annual General Meeting in Newspapers**

Dear Sir,

Please find enclosed herewith copy of newspaper cuttings of Notice of AGM published in **Daily Ausaf & Business Recorder** on October 07, 2025 in Karachi, Lahore & Islamabad, for your information and placement on record.

Please acknowledge the receipt.

Yours truly,

For **Ghani Global Glass Limited**

**(FARZAND ALI)**

Company Secretary

**Encl: - As Above**

CC: The Executive Director/HOD, Offsite-II Department, SECP, Islamabad.

**Corporate Office:**

10-N, Model Town Ext. Lahore - 54700, Pakistan.  
UAN: 111-Ghani1, Ph: +92-42-35161424-5  
Fax: (092) 42-35160393  
E-mail: info@ghaniglobalglass.com  
Web: www.ghaniglobalglass.com

**Regional Marketing Office:**

7-A, Block F, Gulshan-e-Jamal  
Rashid Minhas Road  
Karachi - 75260  
Ph: (021) 34572150  
E-mail: glassmkt@ghaniglobal.com

**Glass Plant:**

52-Km. Multan Road  
Phool Nagar Bypass,  
Distt. Kasur - 55260  
Ph: (049) 4510349-549  
E-mail: glassplant@ghaniglobalglass.com





# GHANI GLOBAL GLASS LIMITED

## Notice of Annual General Meeting

Notice is hereby given that the 18<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of Ghani Global Glass Limited (the Company/GGL) will be held on Tuesday, 28 October 2025, at 09:30 AM, at the registered office of the Company, 10-N, Model Town Ext., Lahore, to transact the following business:-

### ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider, and adopt the Annual Audited Accounts of the Company for the year ended 30 June 2025 together with Directors' and Auditors' Reports thereon.  
The financial statements of the Company have been uploaded on the website of the Company which can be downloaded from the following Weblink and QR enabled code:

<https://www.ghaniglobal.com/ghaniglobalglass/annual-reports/>

2. To appoint auditors of the Company for the year ending 30 June 2026 and to fix their remuneration. The retiring auditors, M/s Crowe Hussain Chaudhury & Co., Chartered Accountants, being eligible, have offered themselves for re-appointment.
  3. Any other business with permission of the Chair.
- ### SPECIAL BUSINESS
4. To consider and if deemed fit, to enhance the investment from Rs. 200 million to Rs. 300 million in Ghani Global Holdings Limited (GGL/holding company) in the form of loans and advances by passing the special resolution with or without modifications under section 199 of the Companies Act, 2017, as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.
  5. To consider and if deemed fit, to enhance the investment from Rs. 300 million to Rs. 400 million in Ghani Chemical Industries Limited (GCI/associated company) in the form of loans and advances by passing the special resolution with or without modifications under section 199 of the Companies Act, 2017, as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.
  6. To consider and if deemed fit, to approve investment up to Rs. 200 million in Ghani ChemWorld Limited (GCWL/associated company) in the form of loans and advances by passing a special resolution with or without modifications under section 199 of the Companies Act, 2017, as annexed with statement under section 134(3) of the Companies Act, 2017.
  7. To consider and, if deemed fit to replace the existing Employees Stock Option Scheme (ESOS) by passing the special resolution as proposed in the statement under section 134 (3) of the Companies Act, 2017.

Place: Lahore

Dated: October 06, 2025

Notes:

### 1. BOOK CLOSURE

Share transfer books of the company will remain closed, and no transfer of shares will be accepted for registration from Tuesday, 21 October 2025, to Tuesday, 28 October 2025 (both days inclusive). Transfer received in order at the office of the share registrar, M/s Digital Custodian Company Limited, 4-F, Pentesi House, Old Queen's Road, Karachi, Pakistan, Ph: +92 21 32419770, Email: [share.registrar@digitalcustodian.co](mailto:share.registrar@digitalcustodian.co) at the close of business on Monday, 20 October 2025, will be considered in time for the purpose of attendance at the AGM.

### 2. ATTENDANCE AT THE MEETING

A member entitled to attend, speak and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote on their behalf.

Proxies, to be effective, must be duly signed, filled out, and witnessed, and should be deposited at the Registered Office of the Company along with attested copies of a valid Computerized National Identity Card (CNIC) or Passport, no less than 48 hours before the meeting.

CDC account holders must follow the guidelines outlined in Circular No. 1 dated 26 January 2000 issued by the SECP for attending the meeting.

Attendance at the meeting shall be upon presentation of the original CNIC or passport.

The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has advised, via circular No 4 of 2021 dated 15 February 2021, to facilitate the participation of members through electronic means. Members can attend the AGM via Video Link. To attend the meeting via Video Link, members and their proxies are requested to register by providing the following information via email at [agmagg25@ghaniglobal.com](mailto:agmagg25@ghaniglobal.com) by 27 October 2025.

By order of the Board  
FARZAND ALI  
Company Secretary

Full Name	Folio/CDC No.	Company Name	CNIC Number	Registered Email Address	Cell Number
-----------	---------------	--------------	-------------	--------------------------	-------------

Video link details and login credentials will be shared with those members whose registered emails containing all the particulars are received on or before 27 October 2025.

Shareholders can also submit their comments and questions regarding the AGM agenda items via the email address [agmagg25@ghaniglobal.com](mailto:agmagg25@ghaniglobal.com).

### 3. CONVERSION OF PHYSICAL SHARES INTO THE BOOK ENTRY FORM

The SECP, through its letter No. CSD/ED/Misc/2016-639-640 dated 26 March 2021, has advised listed companies to comply with the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2017, by converting physical shares issued by them into a book entry form.

Members holding physical folios or share certificates are requested to convert their shares into book-entry form at their earliest convenience. For further details and assistance, members may contact our Share Registrar, M/s. Digital Custodian Company Limited.

### 4. AVAILABILITY OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS ON COMPANY'S WEBSITE:

The audited financial statements of the Company for the year ended 30 June 2025 have been made available on the Company's website [www.ghaniglobal.com/ghaniglobalglass](http://www.ghaniglobal.com/ghaniglobalglass)

Notwithstanding the above, the Company will supply hard copies of the audited financial statements to any Member upon request, sent to their registered address, free of charge, within one (1) week of receiving such request.

### 5. CHANGE IN ADDRESS AND CNIC

Members are requested to notify or submit the following information or documents, either to their respective participants in case of book entry securities in CDS or to the Company's Share Registrar in case of physical shares, by quoting their folio numbers and the Company's name at the address provided below, if not previously notified or submitted.

- Change in their address, if any
- Members who have not yet submitted an attested photocopy of their valid CNIC are requested to do so directly to the Company's Share Registrar.

### 6. POSTAL BALLOT/E-VOTING:

In accordance with the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 ("the Regulations"), the members of the Company have the right to vote via electronic voting and/or postal voting, on the Election of Directors and Special Businesses at the upcoming AGM, subject to the requirements and conditions set out in the stated Regulations.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s. Digital Custodian Company Limited, as the Service Provider for e-voting and M/s. Nasir Jamil & Co. Chartered Accountants, as Scrutinizer for the voting process under the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018 (the Regulations), to vote via electronic voting and postal voting for agenda items No. 4, 5, 6, and 7 of the meeting.

Statement of material facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 along with proposed resolutions are annexed with the Notice of AGM uploaded at website of the Company ([www.ghaniglobal.com/ghaniglobalglass](http://www.ghaniglobal.com/ghaniglobalglass))

Business Recorder, Lahore  
Tuesday, October 7, 2025

15

BR

Lahore, Tuesday 7 October 2025, 13 Rabi-us-Sani 1447

BUSINESS  
RECORDER



APEX PRINTRY

Quality suppliers of Multi-coloured  
Computer continuous Fan-Folded  
Stationery, Share Certificates &  
Security Stationery Items.

Contact

Tel: 32251667 32255745 & 32250071-5



اطلاع دی جاتی ہے کہ غنی گلوبل گلاس لمیٹڈ ("کمپنی" / GGGL) 18 واں سالانہ عام اجلاس (AGM) بروز منگل، 28 اکتوبر 2025 کو صبح 09:30 بجے کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر، 10-این، ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن، لاہور میں منعقد ہوگا تاکہ مندرجہ ذیل کاروبار نمٹایا جاسکے:

### معمولی امور

30-31 جون 2025 کو ختم ہونے والے سال کے لئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹس مع اس پرڈ انٹریکٹرز اور آڈیٹرز کی رپورٹیں وصول کرنا، ان پر غور کرنا اور ان کی منظوری دینا۔  
کمپنی کے مالیاتی بیانات کمپنی کی ویب سائٹ پر اپ لوڈ کر دیے گئے ہیں جو درج ذیل ویب لنک QR کوڈ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیے جاسکتے ہیں:

<https://www.ghaniglobal.com/ghaniglobalglass/annual-reports/>

2- کمپنی کے آڈیٹرز 30 جون 2026 کو ختم ہونے والے سال کے لئے تقریر کرنا اور ان کا معاوضہ مقرر کرنا۔ ریٹائر ہونے والے آڈیٹرز منسٹر زائن ویگ چیف چوہدری انڈگو چارٹرزڈ اکاؤنٹنٹس، نے اہل ہونے کی وجہ سے دوبارہ تقرری کی پیشکش کی ہے۔

3- صدر نشین کی اجازت سے کوئی دیگر امور۔

### خصوصی امور

4- غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ (GGL) / ہولڈنگ کمپنی (میں قرض اور ایڈوانس کی صورت میں سرمایہ کاری کو 200 ملین روپے سے بڑھا کر 300 ملین روپے کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 199 کے تحت، کسی ترمیم یا ترمیم خصوصی قرار دیا منظور کرنا۔ جیسا کہ دفعہ (3) 134 کے تحت بیان کے ساتھ منسلک ہے۔

5- غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ (GGL) / متعلقہ کمپنی (میں قرض اور ایڈوانس کی صورت میں سرمایہ کاری کو 300 ملین روپے سے بڑھا کر 400 ملین روپے کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، کسی ترمیم یا ترمیم خصوصی قرار دیا منظور کرنا۔ جیسا کہ دفعہ (3) 134 کے تحت بیان کے ساتھ منسلک ہے۔

6- غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو غنی گلوبل ہولڈنگز لمیٹڈ (GCWL) / متعلقہ کمپنی (میں قرض اور ایڈوانس کی صورت میں سرمایہ کاری کو 200 ملین روپے سے بڑھا کر 300 ملین روپے کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن 199 کے تحت، کسی ترمیم یا ترمیم خصوصی قرار دیا منظور کرنا۔ جیسا کہ دفعہ (3) 134 کے تحت بیان کے ساتھ منسلک ہے۔

7- غور کرنا اور اگر مناسب سمجھا جائے تو موجودہ ولاز مین کی اسٹاک آپشن اسکیم (ESOS) کو ترمیم کرنے کے لیے کمپنیز ایکٹ 2017 کے سیکشن (3) 134 کے تحت بیان میں تجویز کردہ خصوصی قرار دیا منظور کرنا۔

### بحکم بورڈ

فرز ند علی  
کمپنی سیکرٹری

مقام: لاہور

تاریخ: 06 اکتوبر 2025

### نوٹس:

1- **کتب کی بندش**  
کمپنی کی مخصوص مناسبتی کتب مورخہ 21 اکتوبر 2025 تا مورخہ 28 اکتوبر 2025 (بشمول دونوں ایام) بند رہیں گی اور حصص کی کوئی منتقلی رجسٹریشن کے لئے قبول نہیں کی جائے گی۔ دفتر شیئر رجسٹرار **میسرز ڈیجیٹل کسٹوڈین کمپنی 4-F**، پروڈیکس ہاؤس، اولڈ کوئینز روڈ، کراچی فون نمبر: 021 324 19770 ای میل: [share.registrar@digitalcustodian.com](mailto:share.registrar@digitalcustodian.com) میں مورخہ 20 اکتوبر 2025 میں اوقات کار ختم ہونے پر موصولہ منسلک ہونے والا سالانہ اجلاس میں حاضری کے مقصد کے لئے بروقت تصدیق کیا جائے گا۔

### 2- اجلاس میں حاضری

سالانہ اجلاس عام میں شرکت، تقریر اور ووٹ دینے کا استحقاق رکھنے والے رکن کو اپنی جگہ شرکت کرنے، تقریر کرنے اور ووٹ دینے کے لئے پر کسی مقرر کرنے کا استحقاق حاصل ہے۔

پر کسی کو موثر حیثیت دینے کے لئے اس پر مناسب طریقے سے دستخط کر کے، اسے پُر کر کے اور گواہی کے ساتھ درست کمپیوٹر آڈیٹڈ قومی شناختی کارڈ (سی این آئی سی) یا پاسپورٹ کی تصدیق منقول کے ہمراہ اجلاس سے زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے قبل کمپنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرادیا جائے۔

سی ڈی سی کا ڈاکٹ ہولڈرز کو اجلاس میں شرکت کے لئے ایس ای سی سی پی کے جاری کردہ سرکل نمبر 1، مورخہ 26 جنوری 2000 میں بیان کئے گئے رجیم اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔

اجلاس میں شرکت کے لئے اصل سی این آئی سی یا پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا۔  
کمپنی نے اس امر کو یقینی بنانے کے اقدامات کئے ہیں کہ تمام شرکاء، بشمول حصص داران اب سالانہ اجلاس عام کی کارروائی میں بذریعہ ویڈیو لنک حصہ لے سکیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کے لئے ارکان سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ درج ذیل معلومات [agmggl25@ghaniglobal.com](mailto:agmggl25@ghaniglobal.com) پر، اپنی پائمنٹ / رجسٹریشن کے لئے اور پر کسی کی تصدیق کے لئے مورخہ 21 اکتوبر 2025 تک یا اس سے قبل بھیج دیئے گئے تاکہ ماریٹ کے مطابق فراہم کر دیں:

نام	فولیو / سی ڈی سی نمبر	کمپنی کا نام	سی این آئی سی نمبر	رجسٹرڈ ای میل پتہ	موبائل نمبر
-----	-----------------------	--------------	--------------------	-------------------	-------------

ویڈیو لنک کی تفصیلات اور لاگ ان کی معلومات ان ارکان کو فراہم کی جائیں گی جن کی رجسٹرڈ ای میل بشمول تمام کوآف، 21 اکتوبر 2025 کو یا اس سے پہلے موصول ہو جائیں گی۔

حصص داران سالانہ اجلاس عام کے ایجنڈا کے اجزاء پر اپنے تھمرے اور سوالات ای میل کے ذریعے [agmggl25@ghaniglobal.com](mailto:agmggl25@ghaniglobal.com) کے پتے پر بھی فراہم کر سکتے ہیں۔

### 3- فزیکل شیئرز کی تبدیلی

ایس ای سی سی نے کمپنیز ایکٹ 2017 کی دفعہ 72 کے تحت ہدایت کی ہے کہ فزیکل شیئرز کو بک انٹری فارم میں تبدیل کیا جائے۔ اراکین سے گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنے شیئرز منتقل کروانے کے لیے میسرز کا پ لنک (پرائیویٹ) لمیٹڈ، شیئر رجسٹرار سے رابطہ کرے۔

### 4- پتہ اور شناختی کارڈ میں تبدیلی

ارکان سے درخواست ہے کہ درج ذیل معلومات اور دستاویزات مطلع کریں یا جمع کروائیں، اگر CDS میں کتاب اندراج کے سیکورٹیز ہیں تو اپنے متعلقہ شرکاء کو اور اگر جسمانی حصص ہیں تو کمپنی کے رجسٹرار کے پاس، کمپنی کے رجسٹرار میں درج پتہ پر اپنی فولیو نمبر اور کمپنی کا نام لکھ کر، اگر اگر پہلے سے مطلع یا جمع نہیں کی گئی ہیں:-

- 1- اپنے پتے میں تبدیلی، اگر کوئی ہو
- 2- وہ ارکان جنہوں نے ابھی تک اپنے صحیح CNIC کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی جمع نہیں کرائی ہے، سے درخواست ہے کہ وہ براہ راست کمپنی کے شیئر رجسٹرار کے پاس جمع کروائیں۔

### 5- مالیاتی بیانات کی دستیابی

کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات (سال ختم شدہ 30 جون 2025) کمپنی کی ویب سائٹ ([www.ghaniglobal.com/ghaniglobalglass](http://www.ghaniglobal.com/ghaniglobalglass)) پر دستیاب ہیں۔ مندرجہ بالا کے باوجود، کمپنی کی بھی مہر کی درخواست پر آڈٹ شدہ مالیاتی بیانات کی (Hard Copies) جو ان کے رجسٹرڈ پتے پر، بغیر کسی چارج کے، ایسی درخواست موصول ہونے کے ایک (1) ہفتے کے اندر فراہم کر دیں گی،

### 6- ای ووٹنگ / پوسٹل بیلت

کمپنیز (پوسٹل بیلت) قرار دیا 2018 (ریگولیشنز) کے مطابق، کمپنی کے اراکین کو آئندہ AGM میں ڈائریکٹرز کے انتخابات اور خصوصی کاروبار

روزنامہ اوصاف، لاہور، منگل، 17 اکتوبر، 2025ء

اوصاف

قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں، القرآن

لاہور کراچی اسلام آباد ملتان جیم پور انارکلی مظفر آباد پشاور گلگت بلتستان فزیکل ڈسٹرکٹ اور لندن وڈر شائع ہونیوالا پہلا اردو اخبار

E-mail: [ausaf@gmail.com](mailto:ausaf@gmail.com) http://www.dailyausaf.com

اعلیٰ صحافتی اوصاف کا علمبردار

روزنامہ اوصاف

DAILY AUSAFA LAHORE

چیف ایڈیٹر: ممتاز خان ایڈیٹر: محسن بلا خان

جلد: 27ء، منگل، 13 رجب الثانی 1447ھ، 17 اکتوبر 2025ء، 23 جون 2082ء، صفحات: 8 قیمت 30 روپے شمارہ: 329

TUESDAY, OCTOBER 07, 2025

Registered ID 174